



خشک پاؤڈر انہیلر


جینوایئر (Genuair)



ڈھکن بٹائیں



برے بٹن کو دھکیلیں



برے بٹن کو چھوڑیں




سانس چھوڑیں



مضبوط گہری سانس لیں



یاد دہانی



ڈھکن لگائیں

اہم معلومات

نوٹ:

ماؤتھ پیس کو اپنے دانتوں کے درمیان رکھیں اور اپنے ہونٹوں کو بند کریں۔

خالی ہے؟

ونڈو پر نمبر پڑے ہوئے ہیں جو خوراک کی الٹی گنتی کرتے ہیں - "0" کا مطلب ہے کہ یہ خالی ہے۔ اسے پھینک دیں۔

میعاد ختم ہو چکی ہے؟ ڈیوائس کے بغل میں اختتامی تاریخ چیک کریں۔

یاد دہانیاں:

ڈیوائس کو خشک رکھیں۔

ڈیوائس میں سانس نہ لیں۔

استعمال کے بعد ڈھکن لگا دیں۔

صفائی: ماؤتھ پیس کو خشک ٹشو یا کپڑے سے پونچھیں۔

ہر 12 گھنٹے پر لیں۔

گہری سانس لینے کے ساتھ رنگ والا ونڈو لال ہو جانا چاہیے۔

اگر یہ برا ہی رہتا ہے تو یقینی بنائیں کہ آپ نے برے بٹن کو چھوڑ دیا ہے اور مرحلہ 4-5 کو دہرائیں۔

یہ مواد صرف معلوماتی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسے طبی ڈیوائس، ہدایت اور/یا علاج کے بدلے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو مخصوص سوالات درپش ہوں تو براہ کرم اپنے ڈاکٹر یا مناسب نگہداشت صحت پیشہ ور سے رجوع کریں۔

عکس بندیاں کمیونٹی پیڈیاٹرک استہما سروس، کے ذریعے تیار کی گئی ہیں، www.ucalgary.ca/icancontrolasthma

سونگھی گئی دواؤں اور ڈیوائس کے ڈیموز سے متعلق مزید معلومات کے لیے، اس پتے پر ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں:

www.ucalgary.ca/asthma